

31 جنوری 2019

سیوک سنٹر میں ایک کمیونٹی ہب کے طور پر سرمایہ کاری

سٹی ایک نیا سروس برامپٹن سنٹر کھول رہا ہے اور لیسٹر بی پیئرسن تھیٹر کو از سر نو بحال کر رہا ہے۔

برامپٹن، آن – برامپٹن کی چند مشہور ترین سہولت گاہوں میں سے ایک – یعنی برامپٹن سوک سنٹر پر کچھ زبردست پیش رفت ہو رہی ہے۔ فروری کے مہینے میں، سٹی کا سٹی ہال سے باہر شخصی استعمال کا واحد سروس برامپٹن سنٹر کاروبار کے لیے کھلے گا اور لیسٹر بی پیئرسن تھیٹر میں بھی تجدید کے لیے تعمیر کا آغاز ہو گا۔

سروس برامپٹن سنٹر

نیا سروس برامپٹن سنٹر رہائشیوں کو معلومات فراہم کرے گا اور انہیں موقع پر سٹی کی سروسز کی درخواست کرنے اور کچھ ٹرانزیکشنز، مثلاً ریکریٹیشن رجسٹریشن، پارکنگ ٹکٹ کی ادائیگیاں اور تھیٹر کے ٹکٹ کی خریداری، مکمل کرنے کے قابل بنائے گا۔ اس نئے مقام پر صرف کریڈٹ، ڈیبٹ یا چیک کے ذریعے ادائیگیاں قبول کی جائیں گی۔ جبکہ نقد ادائیگیاں سٹی ہال میں کی جا سکتی ہیں۔

سٹی کی خدمات اور معلومات ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے 311 پر بذریعہ فون یا www.brampton.ca پر آن لائن دستیاب ہوتی ہیں۔ سٹی ہال اور سوک سنٹر میں موجود سروس برامپٹن سنٹرز کو ان مقامات پر آنے والے سیاحوں کا تجربہ بہتر بنانے اور شخصی خدمات کو ترجیح دینے والے رہائشیوں کے لیے ایک انتخاب فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آنے والے سالوں میں سروس برامپٹن سنٹرز کی شہر کی دیگر سہولت گاہوں میں مزید توسیع متوقع ہے، تاکہ رہائشیوں کو شخصی رسائی بھی فراہم کی جا سکے۔

نیا سروس برامپٹن سنٹر فروری 2019 میں کھلنے کے لیے متوقع ہے۔

لیسٹر بی پیئرسن تھیٹر

سٹی لیسٹر بی پیئرسن تھیٹر (LBP) کی \$2.6 ملین کی تجدید سے فنون، ثقافت اور کمیونٹی کے لیے جگہوں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ یہ تجدید معذور افراد کے لیے رسائی اور صحت و حفاظت کی خصوصیات میں اضافہ کرے گی، تکنیکی آلات کو اپ گریڈ کرے گی اور اس کو ایک مزید پرکشش اور خوش گوار جگہ بنائے گی۔ اس منصوبے میں نئے ڈیزائن کا لابی ایریا شامل ہے، جو نہ صرف تھیٹر کو مزید پرکشش مقام بنائے گا بلکہ ساتھ ہی سوک سنٹر میں آنے والے تمام افراد کے لیے کمیونٹی کے لیے جگہ کے طور پر بھی کام آئے گا۔

برامپٹن کا 2040 ویژن اور کلچر ماسٹر پلان، دونوں ثقافتی اور کمیونٹی کی جگہوں پر سرمایہ کاری پر زور دیتے ہیں۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، سٹی اپنے فنون کے مظاہروں کے چھوٹے مقامات (LBP اور سائزل کلارک تھیٹر) کا بہتر استعمال کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ سائزل کلارک تھیٹر کو چھوٹے درجے پر فن کے مظاہروں اور مشق کی جگہ کے طور پر ایک نئی اور قابل استطاعت جگہ بنانے کے لیے، اس کی حالیہ طور پر تجدید کی گئی تھی۔ LBP کی بحالی فنون کے مظاہروں کے مقامی گروہوں کے لیے دستیاب انتخابات کو بڑھانا اور توسیع دینا جاری رکھے گی، بشمول ایک 415 سیٹوں والا تھیٹر اور مشقوں اور تخلیقی ورکشاپس کے لیے ایک مناسب اسٹوڈیو کی جگہ کی فراہمی۔

LBP موجودہ طور پر تجدید کے لیے بند ہے۔ تعمیر فروری 2019 میں شروع ہونے کے لیے متوقع ہے، جو متوقع طور پر خزاں 2019 میں مکمل ہو جائے گی۔ مزید معلومات کے لیے www.brampton.ca/LBP ملاحظہ کریں۔

اقتباسات

"سوک سنٹر پہلے سے ہی برامپٹن لائبریری کی ایک مصروف شاخ اور کئی ایسی مختلف نجی و سرکاری تنظیموں کا گھر ہے جو عوام کے تمام طبقوں کو خدمات فراہم کر رہی ہیں۔ نئے سروس برامپٹن سنٹر اور لیسٹر بی پیئرسن تھیٹر میں ہونے والی تجدید سنٹرل برامپٹن میں سوک سنٹر کی ایک ثقافتی اور کمیونٹی ہب کے طور پر بڑھوتری میں مدد گی۔"

- میئر پیٹرک براؤن

"سروس برامپٹن صارفین کے لیے سروس کو بہتر بنانے اور ہمارے رہائشیوں کو 24/7 معلومات اور خدمات تک رسائی فراہم کرنے کے لیے وقف ہے۔ سوک سنٹر میں نیا سروس برامپٹن سنٹر رہائشیوں کو رابطے کے آسان مقامات کی فراہمی کے لیے منصوبہ شدہ توسیعات میں سے ایک ہے اور میں مستقبل میں مزید شخصی خدمات کے مقامات کے آغاز کے لیے پر امید ہوں۔"

- ریجنل کونسلر رووینا سینٹوس، کارپوریٹ سروسز چیئر

"کلچر ماسٹر پلان ہمارے شہر کے لیے ایک ایسا ویژن ہے، جو بڑے پیمانے پر عوامی مشاورت کے عمل کے بعد تخلیق میں آیا ہے۔ برامپٹن کے پاس تخلیقی پیشکشوں، پیش سازی، شرکت، اشتراک اور جدت کے لیے جگہ کی دستیابی میں اضافہ کرنے کے لیے اس منصوبے میں ترتیب دیے گئے اہداف کو پورا کرنے میں لیسٹر بی پیئرسن تھیٹر کی بحالی پہلا اہم قدم ہے۔"

- ریجنل کونسلر گرپریت ڈھلون، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر چیئر

30--

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم نیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نثر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca